

آنے والے تعلیمی سال میں ہمارا ہدف آزمائش کے اس دور میں ہر ممکن مستحکم ترین تعلیم کی فراہمی ہے، اور جیسا کہ ہم نے بدھ کے روز اعلان کیا، عوامی صحت کی بدلتی صورتحال اور اپنے خاندانوں کی فیڈبیک کی بنیاد پر ہمارا ماننا ہے کہ بہتر کردہ فاصلاتی تعلیم کا ایک ایسا ماڈل جو طلباء کو پورا دن اسکول میں مشغول رکھے وہی نئے تعلیمی سال کے آغاز کا بہترین طریقہ ہے۔

ہمارے اسکولوں کو کھولنے کی تیاریوں میں اگلا مرحلہ بحالی نو کے فریم ورک کو منظر عام پر لانا ہے، جو کہ ہم اب آئندہ آنے والے دنوں میں کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ ہم اس امر کو یقینی بنانے کی خاطر اسکولوں کے قائدین اور ملازمتی شراکت داروں کے ساتھ مصروف عمل ہونے کی خاطر مزید وقت صرف کر رہے ہیں کہ نئے تعلیمی سال کے لئے ہمارا طے کردہ حتمی منصوبہ جامع اور پُر فکر ہو، اور ہم وہ رہنما ہدایات تیار ہو جانے کے بعد جلد از جلد شیئر کر دیں گے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم واضح اور مستقل طور پر عمل سے توقعات وابستہ کرتے ہوئے، اس امر کی سمجھ بوجھ کے ساتھ کہ فاصلاتی تعلیم کس طرح سے اسکول کے علاوہ کے اوقات کے کلبوں اور سرگرمیوں کو متاثر کرے گی، اور طلباء اور عملے کے لئے دیگر معاونتوں پر مزید رہنمائی کے ہمراہ نئے تعلیمی سال کی جانب قدم بڑھائیں۔ ہمارے ان خطرات کا کھوج لگانے کے دوران آپ کی تحمل مزاجی کا شکریہ، اور ہم آپ کی مسلسل مشغولیت اور تعاون کو سراہتے ہیں۔

ہم اس بچے کے لئے انٹرنیٹ ڈیوائس جیسے اس کی ضرورت ہو اور تیز رفتار انٹرنیٹ تک رسائی

گھر پر تعلیم پانے کا آغاز ایک کمپیوٹر ڈیوائس کے حصول سے ہوتا ہے، اور ہم یہ یقینی بنانے کے لئے کوشاں ہیں کہ ہر بچے کو وہ سب کچھ ملے جو انہیں کامیاب ہونے کی خاطر ضرورت ہو۔ اگر آپ کو ایک ڈیوائس درکار ہو، تو براہ کرم معاونت کے لئے اپنے اسکول کال کریں۔ اگر آپ کے بچے کے اسکول کے پاس مزید ڈیوائسز دستیاب نہ ہوئیں، تو ہم آپ کو ایک ڈیوائس کی فراہمی یقینی بنانے کی خاطر آپ کے اسکول کے ساتھ کام کریں گے۔ اگر آپ کو اضافی معاونت درکار ہو، تو براہ کرم ہماری خاندانی ہاٹ لائن 773-417-1060 پر کال کریں یا familyservices@cps.edu پر ای میل کریں۔ ہماری تجویز ہے کہ آپ پہلے اپنے اسکول سے رجوع کریں تاکہ ہاٹ لائن عملے کو ان خاندانوں کو ترجیح دینے کا موقع میسر آسکے جنہیں خوراک اور دیگر ایمرجنسی خدمات تک رسائی پانے میں معاونت درکار ہے۔ تاہم آپ کو ان کی معاونت درکار ہونے کی صورت میں، وہ آپ کی مدد کے لئے وہاں موجود ہوں گے۔

[مربوط شکاگو](#) کے ذریعے، ہم نے CPS 100,000 طلباء کو بلاقیمت تیز تر انٹرنیٹ تک رسائی فراہم کرنے کی غرض سے Comcast اور RCN کے ساتھ شراکت داری کی ہے۔ اہل خاندانوں کو میل میں روبو کالز، متنی پیغامات، اور خطوط موصول ہوئے ہیں۔ اگر آپ نے غلطی سے خط کو ضائع کر دیا ہے یا آپ کو لگتا ہے کہ آپ ممکنہ طور پر مربوط شکاگو کے لئے اہلیت رکھتے ہیں، تو براہ کرم اپنے بچے کے اسکول کال کریں۔ پرنسپلز کو اہل طلباء کی ایک فہرست فراہم کر دی گئی ہے اور وہ بلاقیمت پروگرام میں سائن اپ کرنے کے اگلے مراحل سے آپ کو آگاہ کر پائیں گے۔

گھر پر تعلیمی سال کا آغاز کرنا فی الوقت موسم خزاں کے کھیلوں کے سیزن کو متاثر نہیں کرتا

جیسا کہ طے شدہ ہے، کہ فی الوقت موسم خزاں کے کھیلوں کا سیزن 17 اگست کے ہفتے میں شروع ہونے جا رہا ہے، جو کہ ریاستی مشقی ونڈو سے ایک ہفتہ قبل ہے۔ ہم یہ یقینی بنانے کے لئے اضافی وقت صرف کر رہے ہیں کہ سیزن کے کامیاب آغاز کی خاطر تمام ضروری معاونتیں موجود ہوں۔ جیسے جیسے عوامی صحت کی رہنمائی تبدیل ہوتی ہے، ہم خاندانوں کو تازہ ترین اپ ڈیٹس کی فراہمی کی خاطر IHSA کے ساتھ مل کر کام کرتے رہیں گے۔

IHSA کے نظرثانی شدہ کیلنڈر کے تحت کہ جو گزشتہ ہفتے جاری کیا گیا تھا، فی الوقت درج ذیل کھیلوں کے موسم خزاں میں انعقاد کا فیصلہ کیا گیا ہے:

- لڑکیوں اور لڑکیوں کے بین ریاستی کھیل؛
- لڑکیوں اور لڑکیوں کی گالف؛
- لڑکیوں کی تیراکی اور غوطہ خوری؛ اور
- لڑکیوں کی ٹینس

جبکہ موسم خزاں کے درج ذیل روایتی کھیل بہار 2021 پر چلے جائیں گے:

- لڑکوں کا فٹ بال؛
- لڑکوں کی ساکر؛ اور
- لڑکیوں کی والی بال

ٹیمیں مختصر کردہ باقاعدہ سیزن شیڈیولز کھیلیں گی جبکہ ریاستی سطح پر سیریز کا فیصلہ کیس در کیس بنیادوں پر ہوگا۔ شیڈیول میں کی گئی تبدیلیوں کی مکمل فہرست [یہاں](#) دیکھی جا سکتی ہے۔

آنے والا یہ تعلیمی سال ان سب سے مختلف ہوگا جو ہم اپنے عرصہ حیات میں دیکھیں گے۔ ہماری ٹیم میں کوئی ایک فرد بھی ایسا نہیں ہے جو ہمارے طلباء کی مسلسل پیش قدمی کو یقینی بنانے کی خاطر ہمارے دائرہ اختیار میں تمام تر ذمہ داریاں نبھانے کا 100 فیصد عزم نہ رکھتا ہو۔ چونکہ ہم اس سال آنے والے خطرات کو تلاش کر رہے ہیں، لہذا ہم اپنی CPS کمیونٹی کے ہر فرد کی صحت و تندرستی کو بھی یقینی بناتے ہوئے اپنی تمام تر توجہ وہ سب کرنے پر رکھیں گے جو ہمارے طلباء کے حق میں بہترین ہو۔

خیرخواہ،

لاتانیا ڈی مکڈیڈ (LaTanya D. McDade)
چیف ایجوکیشن آفیسر
شکاگو پبلک اسکولز

جینس کے جیکسن (Janice K. Jackson)، EdD
چیف ایگزیکٹو آفیسر
شکاگو پبلک اسکولز